

## 20156- شدید سردی کی بنا پر غسل جنابت نہ کیا

### سوال

دوپہر کا کھانا کھا کر میں سویا تو نیند میں احتلام ہو گیا، جب عصر کے وقت بیدار ہوا تو شدید سردی ہونے کی بنا پر میں غسل نہ کر سکا، بلکہ میں نے سلوار سے منی کے آثار ختم کر کے تیمم کیا اور عصر کی نماز ادا کر لی کیا میرا یہ فعل صحیح ہے؟ اور کیا احتلام کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے، یا کہ منی کا اثر زائل کر کے وضوء کرنا ہی کافی ہے؟ حقیقت میں شدید سردی کی بنا پر میں نے کئی روز بعد غسل کیا ان ایام میں انہی لباس میں نماز ادا کرتا رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے؟

### پسندیدہ جواب

اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے کہ عاجز ہونے کی صورت میں شرعی تکلیف ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا﴾۔

اور اس میں غسل جنابت کرنے کی عدم قدرت بھی شامل ہے، چنانچہ جو شخص بھی کسی بیماری یا شدید سردی جس کی بنا پر اسے بیمار یا ہلاک ہونے کا خدشہ ہو تو وہ تیمم کر کے نماز ادا کر لے، اور اسے وہ نماز لوٹانی نہیں پڑے گی؛ اس کی دلیل درج ذیل حدیث ہے۔

عمر و بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

"غزوہ ذات سلاسل میں شدید سردرات میں مجھے احتلام ہو گیا اس لیے مجھے یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، میں نے تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھا دی، چنانچہ انہوں نے اس واقعہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے:

"اے عمر و کیا آپ نے جنابت کی حالت میں ہی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی تھی؟

چنانچہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل میں مانع چیز کا بتایا اور کہنے لگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا ہے:

﴿اور تم اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے﴾ النساء (29)۔

چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسخرانے لگے اور کچھ بھی نہ فرمایا"

سنن ابوداؤد حدیث نمبر (334) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ابوداؤد حدیث نمبر (323) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

چنانچہ اگر آپ کسی ایسی جگہ تھے اور وہاں پانی گرم کرنے کے لیے کوئی چیز میانہ تھی، اور آپ نے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے میں بیمار ہونے کا خدشہ محسوس کیا تو آپ کا فعل صحیح ہے، اور آپ کو نمازیں بھی لوٹانا پڑیں گی۔

واللہ اعلم۔